

وڈیو 1  
PBLA کیا ہے

منظر	بیان
1	کینیڈا میں اور آپ کے انگریزی زبان کی کلاس میں خوش آمدید! جیسے جیسے آپ یہاں وقت گزارتے ہیں، آپ انگریزی زبان سیکھیں گے اور کینیڈا میں رہن سہن کے بارے میں جانیں گے۔
2	آپ کی کلاس میں، آپ کا انسٹرکٹر آپ کو یہ دکھانے کے لئے پورٹ فولیو بیسڈ اینگویج اسیمنٹ (پورٹ فولیو پر مبنی زبان کی تشخیص)، یا PBLA کا استعمال کرتا ہے، کہ آپ کی زبان کس قدر بہتر ہو رہی ہے۔
3	آپ وقت کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان سیکھیں گے، اور اپنے انسٹرکٹر سے جتنا زیادہ سیکھیں گے اور جس قدر آپ مشق کریں گے، اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔
4	آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اس میں مدد کے لئے، آپ کو اپنا پورٹ فولیو موصول ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا استاد اسے آپ کا ہائنڈر کہے۔
5	یہ آپ کا ہائنڈر ہے جسے آپ اپنے ESL کلاس روم میں استعمال کریں گے۔ ہم کلاس روم میں ملتے ہیں!

وڈیو 2  
آپ کا PBLA استعمال کرتے ہیں

منظر	بیان
1	اپنے کلاس روم میں، آپ سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مشق کریں گے۔ اس سے آپ کی انگریزی زبان کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
2	جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے آپ اپنے ہائنڈر میں ڈال دیں گے۔
3	وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگریزی زبان کیسے بہتر ہو رہی ہے۔
4	آپ جو کچھ سیکھ چکے ہیں اس کا جائزہ لے سکیں گے اور اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کو کیا بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور آگے کیا سیکھنا چاہیے۔
5	آپ کے ہائنڈر میں کینیڈا میں رہنے اور انگریزی زبان سیکھنے کے بارے میں بھی بہت عمدہ معلومات ہیں۔
6	یہ ہائنڈر آپ کے کلاس روم میں اور گھر میں استعمال کرنے کے لئے ہے۔

وڈیو 3  
PBLA کا استعمال کیوں کریں

منظر	بیان
1	آپ کی کلاس میں، آپ کا انسٹرکٹر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسے عنوانات کا انتخاب کر سکتے ہیں جو کینیڈا میں آپ کی روز مرہ زندگی میں مددگار ثابت ہوں۔
2	وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگریزی زبان کیسی بہتر ہو رہی ہے۔
3	جیسے جیسے آپ کی انگریزی زبان بہتر ہوتی جاتی ہے، آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام کر پائیں گے جیسے خریداری کرنا۔
4	سوچئیے، انگریزی زبان سیکھنے سے آپ کی زندگی میں کیا کرنے میں مدد ملے گی؟
5	اپنے ہائنڈر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں۔

## انگریزی زبان میں صداقت نامہ (ٹیسٹیمونیئل)

ان وڈیوز میں شریک ہونے والے انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں۔ تحریری رکارڈ کی بیوی نقل (ٹرانسکرپشن) کے کچھ حصوں میں وضاحت کے لئے ترمیم کی گئی ہے۔

بیان

اپنے کلاس روم میں PBLA کا استعمال آپ کو انگریزی سیکھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ آئیے سنیں طلباء کا کیا کہنا ہے!

بیان کردہ سوال: آپ اپنا ہانڈلر کب استعمال کرتے ہیں؟

میں اپنا ہانڈلر ہر روز استعمال کرتا ہوں۔

جب مجھے کینیڈا کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہو۔

گھر پر، اپنے تمام کام کا جائزہ لینے کے لئے۔

اگر مجھے اپنی کلاس میں مدد کی ضرورت ہو۔

جب میں کورس میں اپنی پیشرفت دیکھنا چاہتا ہوں۔

ہر روز کیونکہ یہ میری زندگی کا ساتھی ہے۔

بیان کردہ سوال: آپ اپنے ہانڈلر میں کیا ڈالتے ہیں؟

میں اپنے ہانڈلر میں اپنی اسائنمنٹس اور ہوم ورک ڈالتا ہوں۔

میری گویائی، میری سماعت اور میرے مطالعے کے کام۔

میرے ٹیسٹ اور میرے نوٹ۔

میرا پورٹ فولیو۔

بیان کردہ سوال: ہانڈلر کا استعمال آپ کی کیسے مدد کرتا ہے؟

ہانڈلر مجھے انگریزی سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔

کینیڈا کے بارے میں جاننے کے لئے۔

میری نئی کمیونٹی کے بارے میں جاننے کے لئے۔

بیان کردہ سوال: آپ ہانڈلر کا استعمال کیوں پسند کرتے ہیں؟

مجھے اپنا ہانڈلر استعمال کرنا پسند ہے کیونکہ اس سے مجھے اپنے مواد کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

اس میں اہم، مفید، نئی معلومات شامل ہیں۔

اس میں کینیڈا کے بارے میں نہایت مفید معلومات ہیں جیسے موسم اور آب و ہوا، رہائش، تعلیم، صحت کا نظام۔

میرے انگریزی زبان کے سفر میں یہ ہانڈلر ایک رہنما کی طرح ہے۔

میرا ہانڈلر مجھے یہ دیکھنے میں مدد کرتا ہے کہ میری انگریزی کس طرح بہتر ہو رہی ہے۔

اس سے نئے آنے والوں کو مدد ملتی ہے کہ وہ ایک تازہ اور نئی زندگی کی شروعات کرنے کے متعلق عام اندازہ لگا سکتے ہیں۔

میرے ہانڈلر نے کینیڈا میں نئی زندگی شروع کرنے میں میری مدد کی ہے۔

PBLA کے استعمال سے ان طلباء کو مدد ملی ہے۔ آئیے دیکھیں یہ آپ کی مدد کیسے کرے گا! کلاس میں ملتے ہیں!